



سوال

(313) چار عورتوں سے زیادہ کو نکاح میں رکھنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا مرد چار عورتوں سے زیادہ کو لپٹنے نکاح میں رکھ سکتا ہے یا نہیں اور اس کی کیا دلیل ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیح السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

مرد کے لیے چار عورتوں سے زیادہ کو بیک وقت لپٹنے نکاح میں رکھنا جائز نہیں۔ اس کی دلیل ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں تعدد زوجات کا ذکر فرمایا ہے وہاں صرف چار تک ہی شادیوں کا ذکر کیا ہے۔ (النساء: 3)

اور حدیث میں ہے کہ قیس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں آٹھ عورتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ان میں سے چار کو اختیار کر لو اور باقی کو چھوڑ دو۔ (حسن صحیح: صحیح ابن ماجہ (1588) ارواء الغلیل (1885) صحیح ابوداؤد (1939) کتاب الطلاق باب فی من اسلم وعنده نساء اکثر من اربع او اختان) (سعودی فتویٰ کمیٹی)
صدما عنہی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ نکاح و طلاق

ص 396

محدث فتویٰ